

SURRENDER FORM

دستبرداری فارم

Date / تاریخ : _____ Policy Number / نمبر / پالیسی : _____ Name of Policy Holder / نام / پالیسی ہولڈر کا نام : _____
Plan / پلان کا نام : _____ CNIC / شناختی کارڈ نمبر : _____ Contact Number / رابطہ نمبر : _____
Email Address / ای میل ایڈریس : _____

Surrender Type	دستبرداری کی نوعیت	Reason for Surrender / Withdraw	دستبرداری کا سبب
☐ Policy Surrender ☐ Adhoc Surrender ☐ Partial Policy Withdrawal ☐ Partial Adhoc Withdrawal Amount PKR _____ Amount in words _____	☐ پالیسی سے دستبرداری ☐ ایڈھاک دستبرداری ☐ جزوی پالیسی سے دستبرداری ☐ جزوی ایڈھاک سے دستبرداری (رقم ہندسوں میں) (رقم لفظوں میں)	☐ Financial Reasons ☐ Unsatisfactory Returns ☐ Unsatisfactory Service ☐ Others _____	☐ مالیاتی اسباب ☐ غیر اطمینان بخش منافع ☐ غیر اطمینان بخش سروسز دیگران

Pay Out Confirmation

Do you want your Pay Out through; ادائیگی بذریعہ

☐ Direct Transfer in IBFT Account آئی بی ایف ٹی سے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر
☐ Cheque چیک

☐ Account Status / اسٹیٹس : ☐ Active / ایکٹیو ☐ Dormant / دورمنٹ

In case of account, status is inactive or dormant a cheque will be dispatched at your provided correspondence address. اکاؤنٹ ڈورمنٹ / ان ایکٹیو ہونے کی صورت میں چیک متعلقہ پتے پر ارسال کر دیا جائے گا۔

Account Title / اکاؤنٹ ٹائٹل : _____
 Account Number / اکاؤنٹ نمبر : _____
 Bank Name / بینک کا نام : _____

* For Partial Policy withdrawal the sum assured will be reduced by the same amount as that of partial withdrawal amount. * پالیسی سے جزوی دستبرداری کی صورت میں زر بیمہ رقم میں اتنی ہی کمی کی جائیگی جتنی پالیسی سے دستبرداری کی صورت میں ہوگی

Declaration

I _____ holding Policy # _____ with Adamjee Life hereby put forward the request of surrender /Withdrawal of/from my policy and demand for payment of the resulting value (If any) after adjusting for all applicable charges*. I am aware of any financial loss that I might incur as a result. I declare that the information above is true to the best of my knowledge and belief.

میں _____ سے دستبرداری / واپسی کی درخواست داخل کر رہا / رہی ہوں۔ اور مطالبہ کرتا / کرتی ہوں کہ رقم کی ادائیگی (اگر کوئی عائد چارجز ایڈجسٹ کرنے کے بعد کی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی مالیاتی خسارہ جو اسکے نتیجے میں ہوا تو میں اسکا/اسکی ذمہ دار ہوں اور میں اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ میری مذکورہ بالا تمام معلومات بالکل سچ اور صحیح ہیں۔

The Bank is acting as a corporate insurance agent of Adamjee Life Assurance which underwrites policy and the Bank shall not be held responsible for any liability under the policy in any manner whatsoever to the policyholder(s) or claimant(s). (In Incase of bancassurance policy) صرف بینکا انشورنس کی صورت میں بینک آدجسٹی لائف کمپنی لمیٹڈ کے کارپوریٹ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے جو کہ پالیسی ا نڈر رائٹر ہے اور بینک لائف انشورنس پالیسی کے تحت بیمہ دار، اسکے نامدار یا ورثاء کو کسی بھی طرح کسی بھی کلیم کی ذمیداری کا پابند نہیں ہوگا۔

Zakat Deduction

Do you want Zakat to be deducted from your surrender proceeds? کیا آپ زکوٰۃ کی کٹوتی کر دانا چاہتے ہیں؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

If No (Please provide Zakat Declaration Form) اگر نہیں تو زکوٰۃ اعلامیہ فارم فراہم کریں

Signature/Thumb impression of Policy Holder	Bank Approval	Adamjee Life Approval
پالیسی کے مالک کا دستخط/انگوٹھے کا نشان	بینک کی منظوری	آدجسٹی لائف کی منظوری

*Surrender Fees of Rs.350/- applicable + Surrender Charges (See the attached Surrender Charges Sheet)

* دستبرداری کی فیس مبلغ 350/- روپے لاگو + دستبرداری چارجز (مسلک دستبرداری چارجز کی شیٹ) ملاحظہ کریں

Documents Required

- ☐ Complete Original Policy Documents (For Complete Surrender Cases)
- ☐ Zakat Declaration Form (To be made on a stamp paper of PKR.20/- duly notarized)

مکمل اصل پالیسی دستاویزات (مکمل دستبرداری کیلئے)
زکوٰۃ ڈیکلیریشن فارم (جو کہ پاکستانی 20/- روپے کے اسٹامپ پیپر پر تیار کیا جائے اور نوٹری سے تصدیق شدہ ہو)

PENALTY CHARGES - BANCA

دستبرداری چارجز شیڈ - بینکا

Adamjee Life Assurance Co. Ltd
3rd Floor, Adamjee House,
I.I. Chundrigar Road, Karachi - 74000 PAKISTAN

*Surrender Charges vary from product to product and the year in which the policy is surrendered / withdrawn. Year wise Surrender Charges for each product are as under:

*دستبرداری کے چارجز: دستبرداری کے چارجز ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ اور متعلقہ سال کے لئے (جس میں پالیسی کی دستبرداری عمل میں لائے جا رہی ہو) مختلف ہوں گے۔ ہر پروڈکٹ کیلئے دستبرداری کے چارجز درج ذیل ہیں

Plan پلان	Year 1 پہلا سال	Year 2 دوسرا سال	Year 3 تیسرا سال	Year 4 چوتھا سال	Year 5 پانچواں سال	Year 6 چھٹا سال
Future Assure - Old فیوچر آئشور - پرانا	100%	50%	25%	15%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Wealth Assure ویلتھ آئشور	100%	50%	25%	15%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Waseela Zindagi وسیلہ زندگی	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Waseela Zindagi Plus وسیلہ زندگی پلس	100%	50%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Invest Assure انویسٹ آئشور	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Save & Assure - Old سیو آئشور - نیا	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Future Assure - New فیوچر آئشور - نیا	100%	50%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Save & Assure - New سیو اینڈ آئشور - نیا	100%	50%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Shelter for Life - Plus شیلٹر فور لائف - پلس	25%	15%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Shelter for Life - New شیلٹر فور لائف - نیا	100%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Invest for Life انویسٹ فور لائف						
Shelter for Life - Maximizer شیلٹر فور لائف - مکسمیزر	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Shelter for Life - Old شیلٹر فور لائف - پرانا	100%	100%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Wealth Optimizer ویلتھ آپٹیمائزر	Initial 11 Months 3% %3 ابتدائی 11 مہینے	12 - 23 Months 2% %2 12 - 23 مہینے	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Tameer Education & Marriage Plan تعمیر لہجہ کیشن اور میرج پلان	100%	50%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Tahaafuz تحفظ	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں

0.5% in first six months only. Nil Afterwards
پہلے چھ ماہ کیلئے صرف 0.5% - اس کے بعد کوئی نہیں

Plan پلان	Year 1 پہلا سال	Year 2 دوسرا سال	Year 3 تیسرا سال	Year 4 چوتھا سال	Year 5 پانچواں سال	Year 6 چھٹا سال
Khushali Mustaqbil خوشحالی مستقبل	100%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Zamanat Saving plan ضمانت سیونگ پلان	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Khidmat Education and marriage plan خدمت لہجو کیشن اینڈ میرج پلان	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں



*Surrender Charges vary from product to product and the year in which the policy is surrendered / withdrawn. Year wise Surrender Charges for each product are as under:

*دستبرداری کے چارجز: دستبرداری کے چارجز ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ اور متعلقہ سال کے لئے (جس میں پالیسی کی دستبرداری عمل میں لائے جا رہی ہو) مختلف ہوں گے۔ ہر پروڈکٹ کیلئے دستبرداری کے چارجز درج ذیل ہیں

AGENCY / ایجنسی						
Plan پلان	Year 1 پہلا سال	Year 2 دوسرا سال	Year 3 تیسرا سال	Year 4 چوتھا سال	Year 5 پانچواں سال	Year 6 چھٹا سال
Secure Munafa سیکیور منافع	100%	50%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Secure Mustaqbil سیکیور مستقبل	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Super Sarmaya سپر سرمایہ	Initial 11 Months 3% % 3 ابتدائی 11 مہینے	12 - 23 Months 2% % 2 12 - 23 مہینے		24 - 30 Moths 1% % 1 24 - 30 مہینے		Nil Afterwords اسکے بعد سے کوئی نہیں
Shandar Sarmaya شاندار سرمایہ	Initial 11 Months 3% % 3 ابتدائی 11 مہینے	12 - 23 Months 2% % 2 12 - 23 مہینے		24 - 30 Moths 1% % 1 24 - 30 مہینے		Nil Afterwords اسکے بعد سے کوئی نہیں
Mehfooz Munafa محفوظ منافع	100%	50%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Mustakil Yaqeen مستقل یقین	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Roshan Aaj Aur Kal روشن آج اور کل	100%	50%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
OTHERS / دیگر						
Cover for Life کاور فور لائف	100%	50%	25%	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں
Invest and Secure انویسٹ اینڈ سیکیور	100%	50%	25%	15%	10%	NIL کوئی نہیں